

ہم کیسے مدد کرتے ہیں

امتیازی سلوک کی رپورٹ کریں

اگر آپ کو نیو یارک سٹی میں امتیازی سلوک یا ہراساں کیے جانے کا تجربہ ہوا ہے یا آپ نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ **212-416-0197** پر کال کر کے، یا **NYC.gov/HumanRights** پر جا کر اور امتیازی سلوک کی رپورٹ کرنے سے متعلق فارم کا استعمال کرتے ہوئے اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔

مفت ورکشاپ کی درخواست دیں

کمیونٹی ورکشاپس کی مکمل فہرست **NYC.gov/HumanRights** پر مل سکتی ہے۔ کمیونٹی کا عملہ آپ کے سامعین کی ضرورت کے لیے ایک ورکشاپ تیار کر سکتا ہے اور جائے کار، عبادت گاہ، کمیونٹی پر مبنی ادارے، کمیونٹی بورڈ، یا نیویارک سٹی کی کسی بھی اجتماعی جگہ پر اسے پیش کرنے کے لیے آسکتا ہے۔ ورکشاپ کے شیڈیول کے لیے ہمیں **trainings@cchr.nyc.gov** پر ای میل کریں۔

اپنے ایونٹ میں تقریر کرنے کے لیے کمیونٹی کو مدعو کریں

آپ کمیونٹی کے عملہ کو امتیازی سلوک، ہراساں کیے جانے، جائے کار کے حقوق، ہاؤسنگ کے حقوق، اور کمیونٹی کے سلسلے میں بات چیت کی حوصلہ افزائی سے متعلق امور پر تقریبات میں تقریر کرنے، اور پینلز یا گول میز مباحثوں میں شرکت کے لیے درخواست کر سکتے ہیں۔ ایک مقرر کی درخواست کے لیے ہمیں **policy@cchr.nyc.gov** پر ای میل کریں۔

کمیونٹی کا لٹریچر حاصل کریں

NYC.gov/HumanRights پر جا کر یا ہم سے **communications@cchr.nyc.gov** پر رابطہ کر کے نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے قانون پر کثیر لسانی مواد ڈاؤن لوڈ کریں یا درخواست کریں۔



ہم سے رابطہ کریں

کال کریں: **212-416-0197**

ملاحظہ کریں: **NYC.gov/HumanRights**

کمیونٹی برائے
انسانی حقوق **NYC**



کمیونٹی برائے
انسانی حقوق

NYC



@NYCCHR

امتیازی سلوک سے نمٹ رہا ہے 1955 سے



ہم کون ہیں

NYC کمیشن برائے انسانی حقوق

کمیشن نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے قانون کو نافذ کرتا ہے اور عوام الناس کو قانون کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہماری ٹیم سے زائد مختلف زبانیں بولتی ہے۔ یہ مقامی حکومت کا وسائل بننے کے لیے کمیشن کے نظریے اور مشن کی عکاسی کرتی ہے جو ایسی متنوع کمیونٹیز کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان کے لیے قابل رسائی ہے جن کے لیے ایجنسی کام کرتی ہے۔



ما هو القانون

نیو یارک سٹی کا انسانی حقوق کا قانون

نیو یارک سٹی کا انسانی حقوق کا قانون ملک کے شہری حقوق سے متعلق جامع ترین قوانین میں سے ایک ہے۔ یہ قانون نسل، جنس، عمر، معذوری، مذہب، اور قومیت سمیت متعدد دیگر تحفظ یافتہ زمروں کی بنیاد پر ملازمت، رہائش، اور عوامی مقامات میں امتیازی سلوک اور ہراساں کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ قانون نفاذ قانون کے کسی افسر کے ذریعے امتیازی طور پر ہراساں کیے جانے اور تعصب کی بنیاد پر پروفائلنگ کرنے کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے۔

نیو یارک سٹی کا انسانی حقوق کا قانون آپ کو امتیازی سلوک سے تحفظ فراہم کرتا ہے اگر آپ نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، یا یہاں آتے ہیں۔ یہ قانون آپ کو امتیازی سلوک کی رپورٹ کرنے پر انتقامی کارروائی کا سامنا ہونے سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ کمیشن امیگریشن کی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں یہاں مزید جانیں: NYC.gov/HumanRights

ہم کیا کرتے ہیں

نفاذ قانون سے متعلق بیورو



نفاذ قانون سے متعلق بیورو (LEB) معاملات کی تفتیش کرتا ہے، افراد کے لیے حل پر مذاکرات کرتا ہے، اور سماعت کے ذریعے مقدمات کی سنوائی کرتا ہے۔ کچھ مخصوص حالات میں، LEB تنازعات کو زیادہ تیزی سے حل کرنے کے لیے ہنگامی طور پر مداخلت بھی کرتا ہے۔ کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی فرد کو امتیازی سلوک کی وجہ سے ہوئے نقصان کے لیے، قانون کی خلاف ورزی کے لیے جرمانے، اور اضافی تدابیر جیسے کہ دوبارہ ملازمت پر رکھنے، پالیسی میں تبدیلی، تربیت، اور انصاف کی بحالی کے طریقے کے لیے مالی نقصانات کی بھرپائی کا حکم دے سکتا ہے جس سے مجموعی طور پر کمیونٹی کو فائدہ ہو۔

کمیونٹی کے تعلقات سے متعلق بیورو



کمیونٹی کے تعلقات سے متعلق بیورو (CRB) نیویارک کے باشندوں کے مابین سمجھ اور احترام کو فروغ دیتا ہے اور نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے قانون کے تحت نیویارک کے باشندوں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں تقریبات، ورکشاپس، کمیونٹی آؤٹ ریچ، اور مقامی کمیونٹی پر مبنی تنظیموں، اسکولوں، چھوٹے کاروباروں، منتخب شدہ اہلکاروں، اور عبادت گاہ کے ذریعے معلومات فراہم کرتا ہے۔ CRB کمیونٹیز کو متاثر کرنے والے انسانی حقوق کے مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے پابندی سے ٹاؤن ہالز اور تقریبات کا انعقاد کرتا ہے۔ CRB کی مخصوص تعصب سے متعلق ردعمل ٹیم، تعصب سے متعلق واقعہ کے بعد کمیونٹی کے ممبران، مقامی قائدین، اور منتخب عہدے داران کو کمیونٹیز کو تعاون کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے ساتھ ملاتی ہے۔ CRB کے پاس نوعمر لوگوں کے لیے بھی پروگرامنگ موجود ہیں جو اسکولوں اور نوجوانوں کے زیر قیادت اور نوجوانوں پر مرتکز تنظیموں کے ساتھ شراکت داری میں منعقد کیے جاسکتے ہیں۔ NYC.gov/HumanRights پر مزید جانیں۔

